

## Tanzaiya wo Mazahiya Shayeri aur Akbar Alahabadi

B.A Urdu part-ii

طنز و مزاح میں زیادہ ہی مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے۔ اور صورت حال میں مزاح پیدا کرنے کے لئے اس میں زیادہ شدت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے عام طور پر طنز و مزاح کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہی اکبر کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے جن چیزوں پر طنز کیا یا جن پر مزاحیہ انداز میں تنقید کی اس کو غلط روشنی میں دیکھا اور اس کی غلط تعبیریں کیں۔ اسی لئے اکبر کو بار بار اپنے خیالات کی وضاحت کرنی پڑی۔ مزاح میں مزاح نگار کسی صورت حال، فرد، خیال کے مضمک پہلو کو مزاحیہ انداز میں اس طرح ابھارتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آجاتی ہے اور بعد میں اس پر غورو فکر کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟

اکبر کے زمانے میں ہندوستانی معاشرے میں ہر قسم کی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہو رہی تھیں ایک تہذیب کی بساط اٹھ رہی تھی دوسری تہذیب اپنارنگ جمارہ ہی تھی۔ وقت کے ساتھ ادب و شاعری کا تصور بھی بدل رہا تھا۔ اکبر کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ پرانے انداز کی شاعری اب بے وقت کی راگنی ہے۔ ایک طرف تو حکمران قوم کے ظلم و ستم، جبر و استھصال پر اکبر کو غم و غصہ تھا و سرے معاشرے میں ان کو افراتقری نظر آرہی تھی۔ جس سے ایک مضمکہ خیز صورت حال پیدا ہو رہی تھی۔ انگریز نہ صرف سیاسی ہندوستان پر اپنا قبضہ جما رہے تھے بلکہ تہذیبی طور پر اسکو اپنا غلام بنارہے تھے۔ ان کا رب و دبده اس قدر تھا کہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ ۱۹۷۷ء میں لکھنؤ سے "لندن پیش" کے جوڑ پر اودھ پیش ایک پندرہ روزہ اخبار نکلنا شروع ہوا جس کا مقصد معاشرے کی غلط رسم و رواج کو طنز و مزاح کا نشانہ بنانا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ طنزیہ و مزاحیہ انداز میں برطانوی حکومت پر وار کرتا تھا۔ اکبر نے اس اخبار میں کبھی نظم کبھی نثر میں سیاسی اور سماجی مسئللوں پر طنز و مزاحیہ شاعری میں اپنی انفرادی شان پیدا کر لی اور بہت مقبول ہوئے۔

جبکہ طنز کا تعلق ہے اس میں ناکامی کا احساس تھوڑی سی تیزی اور ہمکا ساحزن ہوتا ہے۔ جس پر طنز نگار ہمکا ساپر دہ ڈال دیتا ہے۔ طنز و مزاح کی خوبی یہ ہے کہ اس میں ان سب افسانوں کا ذکر کیا جاسکتا ہے جن کے ناگوار گزرنے کا خیال ہوتا ہے۔ اکبر کے طنز و مزاح کا نشانہ نئی تہذیب، سر سید اور ان کی تحریک، حکومت وقت، سیاسی تحریکیں ہیں۔

اکبر نے اپنی شاعری میں ترقی و تہذیب کے غلط تصور پر وار کیے ہیں اور نئی تہذیب کی ترویج میں چوں کہ سر سید پیش پیش تھے اس لیے انہوں نے ان کو اور ان کی تحریک کو بھی اپنے طنز و مزاح کا نشانہ بنایا۔ ابتداء میں اکبر کو یہ غلط فہمی بھی تھی کہ سر سید یہ سب انگریزوں کی خوشامد میں کر رہے ہیں اور یہ سب کرنے کے بعد وہ ان کی نگاہ میں عزت و و قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور عزت و شہرت چاہتے ہیں۔ لیکن

جب علی گڑھ جا کر رہنے کے بعد ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی، تبادلہ خیال ہوا تو ان کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ اور انھوں نے سر سید کی نیت پر شبہ کرنا چھوڑ دیا۔ مگر ان کی ترقی اور تہذیب کے تصور میں جو غلط اثرات مرتب ہو رہے تھے اکبر نے طنز و مزاح کے پیرائے میں ان پر کڑی تقید کی۔

پانو کو بہت جھٹکا پکاڑ نجیر کے آگے کچھ نہ چلی  
تدبیر بہت کی اے اکبر تقدیر کے آگے کچھ نہ چلی  
پورپ نے دکھا کر رنگ اپنا سید کو مرید بنایا لیا  
سب پیروں سے یہ نج کلے اس پیر کے آگے کچھ نہ چلی

نئے زمانے کے تقاضوں سے متنازع ہو کر آزادی نسوان کا مسئلہ بھی اٹھا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے مخالف تھے۔ اس لیے انھوں نے عورتوں کی تعلیم و ترقی و آزادی کا موضوع زیر بحث لایا۔ اکبر آس کو بھی مغربی تہذیب کی تقلید کا شاخصانہ سمجھتے تھے اور اس کے سخت مخالف تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہندستانی عورت کو اگر مغربی طرز پر تعلیم دی گئی اور اس کو اسی طرح کی آزادی ملی تو وہ اپنی مشرقیت کھو دے گی۔ عصمت و عفت کی حفاظت نہ کر سکے گی۔

بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیباں  
اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا  
پوچھا جوان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا  
کہنے لگیں کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا

لیکن اکبر نے آزادی نسوان کی اپنے بس بھر مخالفت کی مگر انھوں نے دیکھا کہ وہ رنگ جہاں کو بدل نہیں سکتے اور آہستہ آہستہ وہ اس سے متفق نظر آتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم دینی چاہیے مگر اسی حد تک کہ وہ گھرداری کر سکیں۔ بچوں کی تربیت کریں، خاندان کی دیکھ بھال کریں۔

تعلیم لڑکیوں کی ضروری توبہ ہے مگر  
خاتون خانہ ہوں وہ سماں کی پری نہ ہوں

ویسے لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت میں کسی کی فرمائش پر انھوں نے ایک نظم بھی لکھی جس میں انھوں نے اس کی وضاحت کی کہ عورتوں کو کس قسم کی تعلیم ملنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ

مشرق کی چال ڈھال کا معمول اور ہے  
مغرب کے نازور قص کا معمول اور ہے

اکبر کی طنزیہ مزاحیہ شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا معتقد حصہ اس زمانے کی سیاست کا آئینہ دار ہے۔ اکبر نے اردو میں پولیٹکل شائز کی روایت کو آگے بڑھایا اور اس کا ایک معیار قائم کیا۔ انگریز حکومت کی چیزہ دستیاں۔ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی،

کانگریس اور مسلم لیگ کی سیاست کے اتار چڑھاؤ، گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون، زبان کا بھگڑا، جلیان والاباغ کا حادثہ، خلافت تحریک، اکبر نے ان سب کو اپنے طنز و مزاح کا نشانہ بنایا۔ حکومت وقت پر اکبر نے جس طرح کھل کر تنقید کی اور برٹش سامراج کے ہر ہر پہلو پر طنز کیا ہے اور مزاح کے پیرائے میں اس پر تنقید کی ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔

اکبر کی شاعری کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انھوں نے اردو شاعری میں طنز و مزاح کی روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کی شاعری اپنے دور کی تہذیبی تصاصم اور سماجی تبدیلیوں کی بہترین ترجمان ہے۔ بقول رشید احمد صدیقی، ”اردو ادب میں طنز و نظرافت کو سلیقہ اور صحیقہ اکبر اور ”غالب کا دیا ہوا ہے۔

Dr. H M Imran

Dept. of Urdu,

S S College, Jehanabad

Contact: 9868606178